

# زبان سیکھنے میں اپنے بچے کی مدد کریں: پڑھتے ہوئے بات کریں!

## خاندان کی خواندگی

پڑھنا، لکھنا، دیکھنا اور بات کرنا جو خاندان ایک ساتھ کرتے ہیں

لائو/تصور کریں/پڑھیں - صحت اور پڑھائی کو لنک کرنے والا موثریال اسپتال برائے اطفال (MCH) میں ایک خواندگی کے فروغ کا پروجیکٹ - اسے MCH اور خواندگی مرکز کے درمیان اشتراک کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ یہ اسپتال میں سماجی بچوں کے پروگرام کے ساتھ وابستہ ہے۔



2 سے 6 سال کے بچوں کے لیے

بچوں سے بات کرنا انہیں زبان سکھانے کا زبردست طریقہ ہے۔ بچوں کو پڑھ کر سنانا نئے الفاظ اور افکار لانے کا ایک اہم طریقہ ہے۔

تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ کتاب دیکھ کر پڑھتے اور بات کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کی فہرست الفاظ اور نحو میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ کرنے کو ڈائلاجک ریڈنگ کہا جاتا ہے۔ بچے معمول کی کتاب پڑھنے سے زیادہ اسے پسند کرتے ہیں۔

جتنا زیادہ آپ کا بچہ کسی مخصوص کتاب سے مانوس ہوتا ہے، اتنا زیادہ آپ ڈائلاجک ریڈنگ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک ہی کتاب کو اس وقت تک بار بار پڑھیں جب تک آپ کا بچہ کوئی دوسری کتاب نہ مانگے۔

ڈائلاجک ریڈنگ کیسے کریں:  
شروع کرنے کے چار آسان طریقے  
اپ کو کیا چاہئے: تصویری کتاب

اپنے بچے سے اس چیز کے بارے میں بات کرائیں جو صفحہ پر ہو رہی ہے۔ مندرجہ ذیل عوامل میں سے ایک کو آزمائیں:

اپنے بچے سے کہیں کہ آپ کو بتائے کہ تصویر میں کیا ہو رہا ہے: "مجھے اس تصویر کے بارے میں بتائیں"

تصویر میں کسی چیز کے بارے میں ایک سوال پوچھیں:  
"لڑکا کہاں گیا؟"

اپنے بچے سے کہیں کہ وہ کتاب کی کسی چیز کو اس کو ہونے والی کسی چیز سے جوڑے:

"کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ پھسل کر کیچڑ میں چلے گئے؟"

کسی صفحہ کی طرف اشارہ کریں اور کوئی ایسی چیز بیان کریں جو

پیش آ رہی ہے، لیکن جملے کے اختتام کو تکمیل تک نہ پہنچائیں۔

اپنے بچے کو اسے کرنے دیں: "ارے، دیکھو! بکری پھنس گئی  
میں۔"

اپنے بچے سے کسی ایسی کتاب کے بارے میں کچھ یاد کرنے کے لیے کہیں جسے آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں:

2 "کیا آپ کو یاد ہے کہ اس کی کس نے مدد کی؟" اپنے بچے کے جواب کے بارے میں کچھ کہیں: "بلکل صحیح ہے۔"

3 آپ کے بچے نے جو کہا اس کو دہرا کر اور معلومات شامل کر کے اپنے بچے کے جواب میں اضافہ کریں: بچہ: "کیچڑ میں" والدین: "ہاں، وہ کیچڑ میں گر گیا۔"

4 یہ یقینی بنانے کے لیے تمام الفاظ کو دہرائیں کہ آپ کے بچے نے اس سے سیکھا ہے: "بیچارہ۔ وہ کیچڑ میں گر گیا۔"

ڈائلاجک ریڈنگ کے بارے میں مزید معلومات:  
آپ کے بچے کے کتابچہ کے ساتھ پڑھنا - اردو

<http://www.booktrust.org.uk/books/children/how-to-share-books/>

LIR کے بارے میں مزید معلومات  
<http://www.thechildren.com/en/patients/lire-imagine-read-project>

imagine  
LIRE READ

Projet d'alphabétisation HME  
MCH Literacy Project

Hôpital de Montréal  
pour enfants  
Centre universitaire  
de santé McGill



Montreal Children's  
Hospital  
McGill University  
Health Centre